

# Virtual Meeting between Foreign Ministers of India and Oman

December 02, 2020

## ہندوستان اور عمان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ورچوئل میٹنگ کا انعقاد

02 دسمبر، 2020

بھارتی وزیر خارجہ نے آج عمان کے وزیر خارجہ عالی جناب سید بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ کا انعقاد کیا۔ دونوں وزراء نے دوطرفہ، علاقائی اور کثیر الجہتی امور پر وسیع تبادلہ خیال کیا۔

وزیر خارجہ نے عمان کی جدید نشاۃ ثانیہ کے 50 ویں قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے وزیر خارجہ سید بدر اور عمان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے کووڈ-19 کے دوران ہندوستانی برادری کی حمایت کی اور بہترین تعاون فراہم کیا۔ دونوں فریقین نے وبائی مرض سے پیدا ہونے والے موجودہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔

بھارتی وزیر خارجہ اور عمان کے وزیر خارجہ نے ہندوستان- عمان اسٹریٹجک شراکت داری کے کلیدی شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا جیسے کہ دفاع اور سلامتی، معاشی تعاون، استعداد سازی اور تربیت، قونصلر کے امور اور عوام سے عوام کے مابین تعلقات کے حوالے سے تعاون کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دونوں ممالک کے معیشتوں کے مابین مضبوط تکمیل کو دیکھتے ہوئے معاشی شراکت میں توسیع کے بڑے امکان کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے آنے والے وقت میں صحت اور فوڈ سیکورٹی کی اہمیت اور ان سے نمٹنے کے لئے دونوں ممالک کی شراکت داری کی صلاحیت پر زور دیا۔ دونوں وزراء نے علاقائی اور کثیر الجہتی امور پر تبادلہ خیال کیا، اور کثیر الجہتی فورم میں قریبی تعاون برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔

وزیر خارجہ نے عمان - ہندوستان فرینڈشپ ایسوسی ایشن کے قیام کے لئے عمان کی کوشش کو سراہا۔

نئی دہلی

02 دسمبر، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.